

کل نمبر: 10 واقفیت عامہ (سوئم) ٹیسٹ نمبر 5 وقت: 10 منٹ

چوتھا مہینا، چوتھا ہفتہ، پانچواں دن **اسلیبس**: دُہرائی ٹیسٹ، سلیبس (چوتھا ہفتہ)

سوال نمبر 1۔ درج ذیل میں سے درست جواب کے گرد دائرہ کا نشان لگائیں۔  
(i) اختلافات بڑھتے بڑھتے بدل جاتے ہیں:

(الف)	دوستی میں	(ب)	دشمنی میں	(ج)	جھگڑوں میں	(د)	جنگ میں
-------	-----------	-----	-----------	-----	------------	-----	---------

(ii) ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں:

(الف)	اختلافات	(ب)	احساسات	(ج)	خیالات	(د)	خواتشات
-------	----------	-----	---------	-----	--------	-----	---------

(iii) اختلافات کی وجہ ہے:

(الف)	دوسروں کی بات کو غور سے سننا	(ب)	اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کرنا
-------	------------------------------	-----	-----------------------------------

(ج)	اپنی باری کا انتظار کرنا	(د)	غلط فہمیاں پیدا ہونا
-----	--------------------------	-----	----------------------

(iv) اختلافات پر قابو پایا جاسکتا ہے:

(الف)	بات آہستہ کر کے	(ب)	غصہ پر قابو پا کر	(ج)	پُر سکون رہ کر	(د)	یہ تمام
-------	-----------------	-----	-------------------	-----	----------------	-----	---------

سوال نمبر 2۔ کالم (الف) کو کالم (ب) سے ملائیں۔  
(0.5x4=2)

کالم (الف)	کالم (ب)
مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں	اپنی باری پر
ہمیں سوچنا چاہیے	ہمارا رویہ
اختلاف ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے	مثبت انداز میں
ہمیشہ بات کرنی چاہیے	اختلافات کی

سوال نمبر 3۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔  
(3 x 2 = 6)

(i) اختلاف کسے کہتے ہیں؟

(ii) اگر گھر میں آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے تو کون ختم کرواتا ہے؟

(iii) اگر آپ کے دوستوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو آپ کس کی حمایت کریں گے؟

کل نمبر: 10 واقفیت عامہ (سوئم) ٹیسٹ نمبر 5 وقت: 10 منٹ

چوتھا مہینا، چوتھا ہفتہ، پانچواں دن **اسلیبس**: دُہرائی ٹیسٹ، سلیبس (چوتھا ہفتہ)

سوال نمبر 1۔ درج ذیل میں سے درست جواب کے گرد دائرہ کا نشان لگائیں۔  
(i) اختلافات بڑھتے بڑھتے بدل جاتے ہیں:

(الف)	دوستی میں	(ب)	دشمنی میں	(ج)	جھگڑوں میں	(د)	جنگ میں
-------	-----------	-----	-----------	-----	------------	-----	---------

(ii) ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں:

(الف)	اختلافات	(ب)	احساسات	(ج)	خیالات	(د)	خواتشات
-------	----------	-----	---------	-----	--------	-----	---------

(iii) اختلافات کی وجہ ہے:

(الف)	دوسروں کی بات کو غور سے سننا	(ب)	اپنے فرائض اچھے طریقے سے ادا کرنا
-------	------------------------------	-----	-----------------------------------

(ج)	اپنی باری کا انتظار کرنا	(د)	غلط فہمیاں پیدا ہونا
-----	--------------------------	-----	----------------------

(iv) اختلافات پر قابو پایا جاسکتا ہے:

(الف)	بات آہستہ کر کے	(ب)	غصہ پر قابو پا کر	(ج)	پُر سکون رہ کر	(د)	یہ تمام
-------	-----------------	-----	-------------------	-----	----------------	-----	---------

سوال نمبر 2۔ کالم (الف) کو کالم (ب) سے ملائیں۔  
(0.5x4=2)

کالم (الف)	کالم (ب)
مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں	اپنی باری پر
ہمیں سوچنا چاہیے	ہمارا رویہ
اختلاف ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے	مثبت انداز میں
ہمیشہ بات کرنی چاہیے	اختلافات کی

سوال نمبر 3۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔  
(3 x 2 = 6)

(i) اختلاف کسے کہتے ہیں؟

(ii) اگر گھر میں آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے تو کون ختم کرواتا ہے؟

(iii) اگر آپ کے دوستوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو آپ کس کی حمایت کریں گے؟